

## مدیر کے نام

میجر طارق محمود، پشاور

”امریکی کردار سے بے زاری کے اسباب“ (جولائی ۲۰۰۱ء) میں دو بین الاقوامی اداروں سے امریکہ کی بے دخلی کی روشنی میں امریکی حکومت اور ابلاغ عامہ کے ردعمل پر خوب صورت انداز سے بحث کی گئی ہے۔ یہ قارئین کو بدلتے حالات سے خبردار رکھنے کی درست سعی ہے۔ مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ مدعاہمت سے نہیں بلکہ حالات کے بے لاگ تجزیے کے ذریعے امریکی قیادت اور پوری دنیا کو آگاہ کیا جائے کہ عالمی سیاست میں بگاڑ کا باعث اور انسانی معاشرے میں ظلم و استحصاں کا ذریعہ بننے والے اسباب اور عوامل کیا ہیں؟ اسباب کے زمرے میں امریکہ پر عالمی بے اعتمادی اور اس کے پزیر عنت طریقہ کار کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ حالانکہ مذکورہ دونوں اسباب نہیں بلکہ نتائج ہیں۔ قارئین کو بنیادی اسباب سے خبردار کرنا چاہیے۔ کیوں کہ یہ عناصر روز بروز نہ صرف اپنی گرفت عالمی سیاست، معیشت اور عسکری قوتوں پر مضبوط کر رہے ہیں بلکہ کھلے انداز سے میدان میں کود پڑے ہیں۔ مضمون میں عالم اسلام کے کردار پر بہت ہی کم بحث ہوئی ہے۔ کیا ایک ارب سے زائد مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی ہے؟

ہارون اعظم، مردان

ڈاکٹر محمود احمد غازی نے ”قرآن: انداز نزول کی حکمت“ (جولائی ۲۰۰۱ء) میں جس طرح حکمت اور دلائل کے ساتھ قرآن کے تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمتیں بیان کی ہیں اس سے بڑی حد تک ان سوالات کا جواب مل جاتا ہے جو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے وقت ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ”اتحاد قومی: پانچ بنیادی اصول“ موجودہ حالات کے ایک اہم تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ ہماری بد قسمتی یہی ہے کہ ہمارے عوام اور بعض علمائے کرام بھی اختلاف اور مخالفت میں فرق نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہماری مساجد میدان جنگ بنی ہوئی ہیں۔

انار گل خٹک، میانوالی

”قومی بیداری وقت کا تقاضا“ (جولائی ۲۰۰۱ء) فوجی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور اس میں آنے والے طوفان سے پیشگی خبردار کیا گیا ہے۔ سید مودودی کے بتائے ہوئے اتحاد قومی کے پانچ بنیادی اصول ہمارے موجودہ قومی مسائل کے حل کے لیے آج بھی نسخہ کیا ہیں، کاش ان پر عمل کیا جائے! ”قرآن: انداز نزول کی حکمت“ بہت عمدہ ہے تاہم اس کے ص ۲۶ کی آخری سطر میں ”نوبت“ کی بجائے ”نوبت“ شائع ہوا ہے جس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔

شکوکت حیات، مردان

ڈاکٹر فخر الاسلام کی تحریر ”غیر حکومتی تنظیمیں: حقائق“ کرنے کا کام“ (جولائی ۲۰۰۱ء) پڑھ کر معلوم نہ ہو سکا کہ یہ تحریر این جی اوز کی مخالفت میں لکھی گئی ہے یا حق میں۔ رسائل و مسائل کی کمی محسوس ہوئی۔